

مال کی زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا سال

<?xml encoding="UTF-8?">

مال کی زکوٰۃ

مسئلہ 2476: دس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے:

1. گندم (گیہوں)۔
2. جو۔
3. خرما (تمر)۔
4. انگور (کشمش) ان چار چیزوں کو غلات چہارگانہ کہتے ہیں۔
5. سونا۔
6. چاندی ان دونوں چیزوں کو نقدین کہا جاتا ہے ۔
7. اونٹ۔
8. گائے۔
9. بھیڑ اور بکری ان تین چیزوں کو (انعام ثلاثہ) کہا جاتا ہے ۔
10. تجارت کا مال احتیاط واجب کی بنا پر اور ان دس چیز کو (اموال زکوٰۃ) کہا جاتا ہے۔

زکوٰۃ کا سال

مسئلہ 2477: (اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، سونا، چاندی) میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے کہ انسان گیارہ مہینے کامل ان چیزوں کا مالک رہا ہو اور زکوٰۃ واجب ہونے کے بقیہ شرائط بھی پائے جاتے ہوں لیکن بعد کے سال کی شروعات کو بارہواں مہینہ پورا ہونے کے بعد حساب کرے، بعبارت دیگر بعد کے سال کا آغاز ان چیزوں ایک سال کامل گزرنے کے بعد ہے اور اس کو سال زکوٰۃ (زکوٰۃ کا سال) کہا جاتا ہے لیکن زکوٰۃ رکھنے والی بعض دوسری چیزوں میں یعنی گندم، جو، خرما اور کشمشیں ایک سال کامل گزرنا شرط نہیں ہے اور اس کی وضاحت آئندہ مسائل میں ہوگی۔

مسئلہ 2478: تجارت کے مال پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب انسان بارہ مہینے کامل اس کا مالک رہا ہو اور زکوٰۃ واجب ہونے کے بقیہ شرائط بھی موجود ہوں اور دوسری تعبیر میں زکوٰۃ کا ایک سال اس پر گزر گیا ہو جب کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بقیہ شرائط بھی موجود ہوں۔

مسئلہ 2489: سال زکوٰۃ زکوٰۃ کا سال قمری سال کے لحاظ سے حساب کیا جائے گا نہ شمسی سال کے لحاظ سے اس بنا پر مسئلہ نمبر 2477 میں گیارہ مہینے گزرنے سے مراد گیارہ مہینہ قمری ہے جیسا کہ تجارت کے مال کے لیے بارہ مہینے گزرنے سے مراد بارہ مہینہ قمری ہے جیسا کہ مسئلہ نمبر 2477 میں بیان ہوا ۔